```
کیاسیدناحن بن علی رصنی الله عنهما نے بہت زیادہ شادیاں کیں تھیں؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             جواب
                                                                                                                                                                                                                                                                      متعددالم علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدناحس بن علی رضی اللہ عنهمانے کافی زیادہ شادیاں کی تفیں اور بست زیادہ طلاقیں بھی دی تفییں۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               انحدا بن كثير رحمه الله كهية بين :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بگه دی "ختم شد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "البداية والنهاية " (8/42)
                                                                                                                                                                                                  . • "(253/3) اوراس طرح: " تاريخ دمثق" از: ابن عساكر (251/13) نيز " تاريخ الإسلام" از ذببي (37/4) اور راغب اصفهاني كي " عاضرات الأدباء " ﴿ 37/4 £ وَ عَلَيْهِ السَّالِي اللَّهِ وَالْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلِيْمِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ وَ الْعَلِيْمِ وَ الْعَلِيْمِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ
                                                                                                                                   تاہم ہمیں یہ بات یہاں یا درکھنی چاہیے کہ بست می تاریخی روایات ٹا بت نہیں ہو تیں اس لیے ایسی روایات کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے نصوصاً اگر کوئی روایت نامور شخصیات اور مسلم سر براہان کے بارے میں ہو۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    لطالبُ أَنَّ السِّيرَا تَجْمَعُ ماصحَّ وما قدأُ نَحرًا"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ترجمہ: طالب علم یہ بات جان لے کہ سیرت کی کتا ہوں میں صحح اور غلط سب جمع ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ى ليے شيخ عبدالرحمن معلمي رحمه الله كيتے ہيں:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "علم الرجال وأهميتة" (ص 24)
پہ چوکہ اجاتا ہے کہ حمن بن علی رمنی اللہ عنہمانے سریا نوسے سے زیادہ عورتوں سے شادی کی یا اسی طرح کی دیگر روایات توان میں سے کوئی ایک بھی ہمیں ایسی نہیں کلی جس کی سندقابل حجت ہو، اس لیے ایسی روایات کو قبول کرنے میں اعتباط برتنی چاہیے اوران پراعتاد کرنے میں جلدہازی نہیں کرنی چاہیے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ه 27 میں لکھتے ہیں:
تو250 کا ہے بلد کسی میں تو300 کا بھی ذکرہے ،اس کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں تو پیر سب کی سب شاذروایات ہیں بلکدا تنی بڑی تعداداور عدد خودساختہ اور من گھڑت معلوم ہوتاہے،ان روایات کی تفصیل پیر ہے : ۔ ۔ ۔ "پھر انہوں نے ان تمام روایات کی تفصیل ، ضعف ، اور کمزوری ذکر کی ہے ، آر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ه 31 پر کھتے ہیں:
                                                                                                       "حس بن علی رصنی الله عمد کی شادیوں کے بارے میں تخیلاتی تعداد ذکر کرنے والی کوئی ایک روایت بھی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہوتی ،اس لیے ان روایات پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ ان میں شبسات اور نقائص پائے جاتے ہیں "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ی طرح پھر آگے جل کر کہتے ہیں:
ئے اسلام کے متعلق تاریخ تلاش کرنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں کداس قیم کی روایات کولاز می طور پر پر کھیں تاکہ صحیح اورضعیت روایات کوالگ الگ کرسکیں اورامت کے لیے اچھاکام کرکے جائیں تاکہ وہ کسی ایمی غلطی میں ملوث نہ ہوں جن میں ہمارے بعض اسلاف سے تسامع ہوا، نیزاس تسام کی وجہ
ہے کہ حافظا بن کثیر رحمہ اللہ نے اس بارے میں نقل کی جانے والی روایات کے ضعیف ہونے کی جانب اشارہ بھی کیا ہو؛ کیونکہ آپ نے انکھا ہے کہ : "کہا گیا ہے کہ آپ نے ستر خواتین کوا پنے عقد میں جگہ دی "اب حافظا بن کثیر نے "کہا گیا" سے تعبیر کیا ہے تو یہ تعبیر ایسی روایات کے خابت شدہ نہ ہونے
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   لمداعلم.
```